

# شیرانے بانر فی دوستی







ورسوپهلانی وات چھے دور افریقہ نا جنگل ماشیرخان انے بانر نی  
گہری دوستی تھی ، ہمیشہ ساتھ رہتا انے ساتھ ج شکار کرے ، بانر  
ہر وقت شیرخان نے شکار کروا ما مدد کرے ، کیم کراہنی تیز نظر نا  
سب سسلہ جیوانا ہنا جانور وھی دیکھائی جائی ، جر شیرخان  
نے دھوند واما مشکل تھائی ،  
'امثل بیوے ساتھ جمتا انے خوش حال زندگی گذارتا .





ہوے ایک دن موسم بد لایو، انے گھنوسخت بارش  
تھیو، جرنا سب شیرخان نے شکار ملو و مشکل تھی  
گیو، ا حال بے دن لگ رہیو، بارش نا سب سگلا  
جانور و چھپائی گیا .



گھنودھوندا بعد مشکل سی بانر نے ایک سسلہ جھارڻو ما چھائیلو  
نظر ايو، هوے اوقت بانر یر ایم سونچو . . .

"ا شکار نے اگر ہمیں بیوے ساتھ جمیے تو مارا دوست شیر نے کفایہ  
نہیں تھائی انے یر بھوکورھی جاسے"

اھنے رسول اللہ نی ا حدیث یاد اوی گئی "احب لغيرك ما تحب  
لنفسك"

ا خیال کری نے بانر - شیر خان نے پوتانا جان پراختیار کری لے چھے..





انے شیرخان پاسے اوے چھے . . .

بانر: شیرخان بھائی! شیرخان بھائی! جومیں تمہارا واسطے سونہ  
لایو چھونہ!!

شیرخان بھوک نی حالۂ ما جمن دیکھی نے گھنوخوش تھائی چھے .

شیرخان: ارے واہ! چلو چلو اپنے ساتھ جمیئے!

بانر: نرنر! اتو تمہارا واسطے لایو چھونہ ، میں تو جھمی چکو .



ٲهورا وقت بعد . . .

آنگل ما بانر نو ايك شكارى بانر نے ٲكروا اوے آھے ،  
بانر نے او ات ني آبر نہ رھتي ، ٲر اھنا كام ما مشغول هوئي  
آھے انے شكارى اھنے ٲكري لے آھے . . .





بانر مدد واسطے نداء دے چھے . . . "بچاؤ! بچاؤ!"  
شیر خان نا کانوما بانر نو' اوانر پہنچے چھے انے اولکھی  
جائی چھے کراہنو دوست بانر مصیبت ما چھے .





ترے وقت شیرخان بانرنے مدد کروا تیزی سی بھاگے  
چھے، جیوارے شکاری شیرخان نے دیکھے چھے تو ایکدم گھبرائی  
نے وہاں سی بھاگی جائی چھے، انے بانربچی جائی چھے ...  
تر وقت بانرنے ایم احساس تھائی چھے، کہ اگر اپنے کوئی بیجا  
واسطے اچھو کریئے، تو خداتع اہنی جزاء آپے، چھے .  
اپنے مدد کرتا رہو و جوئیے .

حدیث: "إِحِبِّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ"





أَحِبُّ الْإِخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ  
أَحِبُّ النَّاسَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ  
أَحِبُّ الْغَيْرَكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ





- تمیں تمارا بھائی مؤمن واسطے وہ چیز نے پسند کرو  
جہ تمیں تمارا جان واسطے پسند کرو چھو،
- تمیں تمام لوگو واسطے وہ چیز نے پسند کرو جہ  
تمیں تمارا جان واسطے پسند کرو چھو،
- تمیں تمارا غیر (تمام موجودات) واسطے وہ چیز نے  
پسند کرو جہ تمیں تمارا جان واسطے پسند کرو چھو.



Prefer for your Mumin brother what you prefer for yourself.  
Prefer for all people what you prefer for yourself.  
Prefer for all others (all of Creation) what you prefer for yourself.

## من الكلمات النورانية

**مدد:** 'اه! اے عزاداران حسین! مملوک ال محمد فقیر، مسکین، حقیر، حسین نوادنی غلام حسین نوداعی حسین نی شہادۃ پڑھون چھون، 'اه شہادۃ پڑھون ترپہلا **مدد** مانگون چھون.

**نداء:** اکبریہ **نداء** کیدی کر باواجی صاحب! آپ دھارو..

**نظر:** حسین چو طرف **نظر** کرے چھے قبر کھودنا رکون؟ کوئی نتھی..

**مشغول:** ہر وقت حسین نی ذکر ما **مشغول** رہے، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا یا حسین نو کلمۃ ورد زبان ہوئی



**موسم:** چاول ٹھنڈي ماڻهي اُڳي ڇهي اني گرمي ماڻهي اُڳي ڇهي ، اني  
پانڪهري - **موسم** ماڻهي اُڳي ڇهي .

**اختيار:** حُرگهورا پر بيٺا ڇهي لرنري رهيا ڇهي ، خيال ماڪرمي مارا  
جان ني **اختيار** اپون ايڪ طرف اڳ ڇهي ، اني ايڪ طرف نور ڇهي ،  
چهيل مي فصل ڪرون چهون ڪر نور طرف ولي جاؤن ،

**حالة:** اُ خيمه ما ايڪ گاڏي نصب ڪرو ما اؤسے ، اهنه پر ايڪ بيمار  
اني امام تشریف راکهي ڇهي ، امه نا امام هسے ، مگر **حالة** سونر هسے  
؟ ڪر هاڻه ما هتھ ڪڙي ، پاؤن ما بيٺي ، گلا ما طوق ..

**بارش:** پتھر پر ماڻي هوئي تو **بارش** ورهسے تو مٽي دھو وائي  
جائي ..



Written & illustrated by: Husaina M. Mustafa, Ruqaiya Abdulqadir,  
Arwa Qaizar, Arwa M. Aliasger

Darjah Sadesa – 1436/37H

Edited by: Shk Abbas bhai Sunelwala, Al Jamea tus Saifiya, Surat

Published by: al Muntasebaat ilal Jamea